



کووڈ-19 کے ردعمل میں برامپٹن ٹرانزٹ سروس میں تبدیلیاں 4 اپریل سے مؤثر ہو رہی ہیں

برامپٹن آن (2 اپریل 2020) – کورونا وائرس (کووڈ-19) کے ردعمل میں اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ برامپٹن ٹرانزٹ اپنی کمیونٹی کو اپنی خدمات بحفاظت فراہم کر رہا ہے، 4 اپریل سے شروع کرتے ہوئے درج ذیل ویکینڈ بس سروس کو تاحکم ثانی تبدیل کر دیا جائے گا۔

درج ذیل روٹ متاثر ہوں گے۔

ہفتہ:

- 32 فادر ٹوبن – سروس منسوخ کر دی گئی ہے؛ پیر - جمعہ کام کرنا جاری رکھے گی
- 33 پیٹر رابرٹسن – سروس منسوخ کر دی گئی ہے؛ پیر - جمعہ کام کرنا جاری رکھے گی
- 56 کنگنول – سروس منسوخ کر دی گئی ہے؛ پیر - جمعہ کام کرنا جاری رکھے گی
- 52 مک مرچے – شرح کو کم کر کے پورا دن ہر 50 منٹ کے بعد کر دیا گیا ہے

اتوار:

- 32 فادر ٹوبن – سروس منسوخ کر دی گئی ہے؛ پیر - جمعہ کام کرنا جاری رکھے گی
- 56 کنگنول – سروس منسوخ کر دی گئی ہے؛ پیر - جمعہ کام کرنا جاری رکھے گی
- 52 مک مرچے – شرح کو کم کر کے پورا دن ہر 50 منٹ کے بعد کر دیا گیا ہے

ان تبدیلیوں کا اطلاق اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان میں سے کچھ اضافی وسائل کو برامپٹن ٹرانزٹ کے زیادہ مصروف روٹس پر منتقل کیا جا سکے، کیونکہ ہم جسمانی فاصلہ بندی کے عمل کو ممکن بنانے کے لیے بسوں میں سواروں کو آدھی سیٹوں کی گنجائش تک محدود کرنا جاری رکھنا چاہتے ہیں۔

صفائی اور جراثیم سے پاک کرنے کا ایک اضافہ شدہ شیڈول زیر عمل رہے گا۔ برامپٹن ٹرانزٹ ہر 48 گھنٹے کے بعد تمام ٹھوس سطحوں، آپریٹر کمپارٹمنٹس اور سیٹوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا ہدف رکھتا ہے۔ بسوں کو موجودہ طور پر ہر 24 گھنٹے کے بعد جراثیم سے پاک کیا جا رہا ہے۔ ٹھوس سطحوں والی سہولت گاہوں اور ٹرمینلز کو روزانہ کی بنیادوں پر صاف اور جراثیم سے پاک کیا جاتا ہے۔ مسافروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سفر کرتے ہوئے اپنا ذاتی جراثیم کش اپنے ساتھ رکھیں، مثلاً ہینڈ سینٹائزر یا وائپس اور اپنے ہاتھوں کو کثرت سے دھوئیں۔

سٹی آف برامپٹن خطروں پر نظر رکھنا جاری رکھنے کے لیے پیل پبلک ہیلتھ اور برامپٹن ایمرجینسی منیجمنٹ آفس میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ قریبی طور پر کام کر رہا ہے۔ باقاعدگی سے اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے www.brampton.ca/covid19 ملاحظہ کریں اور سروس اپ ڈیٹس کے لیے www.bramptontransit.com پر جائیں یا ٹوئٹر پر [@bramptontransit](https://twitter.com/bramptontransit) کو فالو کریں۔ سوالات 905-874-2999 پر بھیجے جا سکتے ہیں۔



BRAMPTON

Service and Information Update

کینیڈا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ایک شہر کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباری اداروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر کام کا مرکز نگاہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری متنوع کمیونٹیاں ہمیں توانائی بخشتی ہیں، ہم سرمایہ کاری کو مرغوب کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی اختراع کے سفر میں قائدانہ حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca